

اَتَلْ مَا اُوْتَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ

آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہئے جو آپ کی طرف وی کی کئی ہے اور نماز قائم کیجیے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهِيَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلِذِكْرِ اللَّهِ

یقیناً نماز بے حیائی اور بُرے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر

الْكَبِيرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٦﴾ وَلَا تُجَادِلُقَوْ أَهْلَ

سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو۔ اور بہتر انداز کے سوا

الْكِتَبِ إِلَّا بِالْقَيْمَىٰ هِيَ أَحْسَنُ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

اہل کتاب سے جھکھڑا مت کرو۔ مگر وہ جو ان میں سے ظالم ہیں

وَقُولُوا إِمَّا بِالَّذِي أُنْزَلَ إِلَيْنَا وَإِنْزَلَ إِلَيْكُمْ

اور یوں کہو ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو تمہاری طرف اتاری گئی

وَالْهُنَّا وَالْهُكْمُ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٧﴾

اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے تابع دار ہیں۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ فَالَّذِينَ اتَّبَعُوكُمُ الْكِتَبَ

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری۔ پھر وہ جن کو ہم نے کتاب دی

يُؤْمِنُونَ بِهِ ۝ وَمَنْ هُؤْلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۝ وَمَا يَجْحَدُ

وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں سے کچھ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہماری آئیوں کا

بِإِيمَانٍ إِلَّا الْكُفَّارُونَ ﴿٨﴾ وَمَا كُنْتَ تَتَنَاهُ مِنْ قَبْلِهِ

انکار نہیں کرتے مگر جو کافر ہیں۔ اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب تلاوت

مِنْ كِتَبٍ وَلَا تَخْطُلَهُ بِيَوْمِنِكَ إِذَا لَأَرْتَابَ الْمُبْطَلُونَ ﴿٩﴾

کرتے تھے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے، تب تو ضرور باطل پرست شک میں پڑتے۔

بَلْ هُوَ الْيُتْ بَيِّنَتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔

وَمَا يَجْحَدُ بِإِيمَانَنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿١٠﴾ وَقَالُوا

اور ہماری آیات کا ظالم لوگ ہی انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں

لَوْلَا أُنْزَلَ عَلَيْهِ اِلْيَتْ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا اِلْيَتْ

اس پر اس کے رب کی طرف سے مجرمات کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ فرمادیجیے کہ مجرمات تو صرف

عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَثَا
 اللَّهُ كَپاس ہیں۔ اور میں تو صرف صاف ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے
 أَتَرَلَّنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُشَتَّلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتنا ری جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ یقیناً اس میں
 لَرْحَمَةً وَذَكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْتِنِي
 رحمت ہے اور نصیحت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاقی ہے۔ آپ فرمادیجیے اللہ میرے
 وَبَيْتَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔
 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَلِلَّهِ هُمْ
 اور جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے
 الْخَسِرُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ
 والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں۔
 وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَتَّعِي لِجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيهِمْ بِعْتَدَةً
 اور اگر وقت مقرر کیا ہو تو ان کے پاس عذاب آ جاتا۔ اور البتہ ان کے پاس وہ اچاک ہی آ جائے گا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ
 اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ سے عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں۔
 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُجْحِظَةٍ بِالْكُفَّارِينَ ۝ يَوْمَ يَغْشِمُ الْعَذَابُ
 اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن ان کو عذاب ڈھانپ لے گا
 مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا
 ان کے اوپر سے اور پیروں کے نیچے سے اور کہے گا کہ تم
 مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ يُعَبَّادِي الَّذِينَ آمَنُوا
 اپنے اعمال کے مزے لو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہوں
 إِنَّ أَرْضَنِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاهُ فَاعْبُدُوهُنَّ ۝ كُلُّ نَفِيسٍ
 یقیناً میری زمین وسیع ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار کو
 ذَلِيقَةُ الْمَوْتِ تُثْمَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر ہماری طرف تمہیں واپس آنا ہے۔ اور جو ایمان لائے

وَ عَلَوْا الصَّلَحَتِ لَبَيْوَتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ عَرْفًا تَجْزِي

اور نیک عمل کرتے رہے، ہم انہیں ضرور جنت میں سے ٹھکانا دیں گے ایسے بالاخانوں (اوپر والی منزلوں)

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نَعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ۝

میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے؟

الَّذِينَ صَابَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

وَكَائِنُ مِنْ دَآبَةٍ لَا تَجْلِي رِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُهَا فَإِنَّمَا

اور کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے۔ اللہ ہی انہیں اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَاقَ

اور اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ

اور زمین پیدا کیے اور کس نے چاند اور سورج کو کام میں لگا رکھا ہے، تو ضرور وہ بولیں گے کہ

اللَّهُ ۝ فَإِنِّي يُوقَنُونَ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

اللہ نے۔ پھر کہاں وہ لوٹائے جاتے ہیں؟ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے

يَسِّعُهُ مِنْ عِبَادَةٍ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ يُكْلِ شَيْءٍ

چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب

عَلِيهِ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ تَرَأَى مِنَ السَّمَاءَ مَاءَ

جانے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی اتنا رہا،

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۝

پھر اس کے ذریعہ میں کواس کے شکل ہو جانے کے بعد زندہ کیا، تو ضرور وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

آپ فرمادیجیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعُبٌ وَإِنَّ الدَّارَ

اور یہ دنیوی زندگی نہیں ہے مگر دل لگی اور کھیل۔ اور یقیناً آخرت

الْآخِرَةَ لَهُيَ الحَيَاةُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

والا گھر وہی (اصل) زندگی ہے۔ کاش یہ سمجھتے۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْقُلُبِ دَعَوْا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ
پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے عبادت کو خاص کرتے
الدِّيْنَ هُ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝
ہوئے۔ پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے، تو فوراً ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔

لِيَكْفُرُوا بِهَا أَتَيْهُمْ وَلِيَمَتَّعُوا نَسْقَ فَسَوْقَ يَعْلَمُونَ ۝

تاکہ ناشکری کریں اُن نعمتوں میں جو ہم نے انہیں دیں۔ اور تاکہ وہ مزے اڑائیں۔ پھر آگے انہیں پتہ چلے گا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمْنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ

کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے امن والا حرم بنایا حالانکہ لوگ اس کے اطراف سے اچک من حُولِهِمْ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةِ اللَّهِ

لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری

يَكْفُرُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ

کرتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ

كَذِبًاً أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَهَا جَاءَهُ الْيَسَ

گھرے یا حق کو جھٹائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا

فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّيٌ لِلْكُفَّارِ ۝ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

جہنم کافروں کا ٹھکانا نہیں؟ اور وہ لوگ جنہوں نے مجاہدہ کیا ہماری خاطر

لَهَدْيَةِهِمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَنِ الْمُحْسِنِينَ ۝

تو ہم انہیں ہمارے راستوں کی ضرورت ہمایکی کریں گے۔ اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

إِلَيْهِمَا ۖ ۴۰ (۳۰) سُبْلَنَا وَلَعْنَ الْمُنْكَرِ وَلَعْنَ الْمُنْكَرِ ۝

سورہ الرُّوم کے میں نازل ہوئی اور ۲۰ آیتیں ہیں اس میں

سُبْلَنَا وَلَعْنَ الْمُنْكَرِ ۝

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بِاُمِّرِیان، نہایت حرم والا ہے۔

الْمَ ۝ عَلَيْتِ الرُّومَ ۝ فِي أَذْنِ الْأَرْضِ وَهُمْ

الْمَ۔ روی اس زمین کے قربی علاقہ میں مغلوب ہوئے۔ اور وہ

مَنْ بَعْدِ عَلِيهِمْ سَيَعْلَمُونَ ۝ فِي بَضْعِ سِنِينَ هُ يُنْهَى

مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی غالب ہوں گے۔ چند سال میں۔ تمام

الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَيْدٌ يَفْرَحُ
امور اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ اور اس دن ایمان والے اللہ کی

الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَنْصُرُ اللَّهُ يَئْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ

نصرت پر خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نصرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اور وہ زبردست ہے،
الرَّحِيمُ ۝ وَعْدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

نہایت رحم وala ہے۔ یہ اللہ کے وعدہ کے طور پر ہے۔ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا،

وَلِكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا

لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہ دنیوی زندگی کے ظاہر کا علم
مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۝

رکھتے ہیں۔ اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔

أَوَلَمْ يَتَقَرَّبُوا فِي آنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ

کیا انہوں نے سوچا نہیں اپنے دل میں کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْعَقِيقِ وَاجِلٌ مُسَمَّىٌ

درمیان کی چیزیں پیدا نہیں کیں مگر حق کے ساتھ اور ایک مقروہ وقت تک کے لیے؟
وَ إِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ۝

اور یقیناً انسانوں میں سے بہت سے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

کیا وہ زمین میں چلے (پھرے) نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ جو ان سے زیادہ قوت والے تھے
وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرُ مِنَاهَا عَمَرُوهَا

اور انہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیا تھا اس سے زیادہ جتنا انہوں نے آباد کیا ہے
وَ جَاءَتُهُمْ رُسْلُهُمْ بِالْبُشِّرَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ

اور ان کے پاس ان کے پیغمبر و محدثین مجھات لے کر آئے تھے؟ پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا،

وَلِكُنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةً

لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر برا کرنے والوں

الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوَافِيْ أَنْ كَذَبُوا بِأَيْتِ اللَّهِ وَكَانُوا

کا انجام بہت ہی برا ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹالیا اور وہ ان
بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ اللَّهُ يَبْدُلُ الْعَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اللہ پہلی بار مخلوق پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا،
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبَلِّسُ

پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو محرم لوگ

الْبُجْرُومُونَ ﴿٨﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شَرِكَاءِ هُمْ شُفَعَوْا

ما یوں رہ جائیں گے۔ اور ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے سفارش کرنے والے بھی نہیں ہوں گے
وَكَانُوا إِسْتَرَكَاءِ هُمْ كُفَّارِينَ ﴿٩﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

اور وہ اپنے شرکاء کا انکار کر دیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی
يَوْمَ إِلَيْهِ يَنْتَرَقُونَ ﴿١٠﴾ فَإِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اس دن سب الگ ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام
الصِّلْحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُخْبَرُونَ ﴿١١﴾ وَإِنَّمَا الَّذِينَ

کرتے رہے تو وہ باغ میں ہوں گے، انہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اور جنمیوں نے
كَفَرُوا وَ كَذَبُوا بِأَيْتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ

کفر کیا اور ہماری آئیوں کو اور آخرت کے ملنے کو جھٹالیا، تو وہ
فِي الْعَذَابِ مُحْكَرُونَ ﴿١٢﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ

عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ کی تسبیح کرو جب
ثَمُسُونَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ

شام کرو اور جب صبح کرو۔ اور اسی کے لیے تمام تعریفوں میں آسمانوں اور زمین
وَالْأَرْضِ وَعَشِيشًا وَ جِينَ تُظَهَرُونَ ﴿١٤﴾ يُنْجِحُ الْحَيَّ

میں اور سہ پہر کے وقت اور جس وقت تم دوپہر کرو۔ وہی زندہ کو مردہ
مِنَ الْمِيتَ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَ يُنْحِي

سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذِلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ أَيْتَهُ

اس کے خشک ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے

أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَتَسْتَرُونَ ①

یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر اب تم بشر ہو، کچھیں رہے ہو۔

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا

اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی (میاں بیوی) سے جوڑوں کو پیدا کیا

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۝

تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور شفقت رکھ دی۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ② وَمَنْ أَيْتَهُ خَلْقًا

یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سوچتی ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافُ الْسِنِيمَكُمْ وَالْأَوَانِكُمْ ۝

اور زمین کو پیدا کرنا ہے اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتَ لِلْعَلَمِيْنَ ③ وَمَنْ أَيْتَهُ مَنَامَكُمْ

یقیناً اس میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے

بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۝ إِنَّ

رات میں اور دن میں اور تمہارا تلاش کرنا ہے اس کی روزی کو۔ یقیناً

رَفِيْ ذَلِكَ لَذِيْتَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ④ وَمَنْ أَيْتَهُ يُرِيكُمْ

اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں

الْبَرْقَ حَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا كَانَ فِيهِ

بھلی دھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور لائچ کے لیے، اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعہ

بِلِ الْأَرْضِ بَعْدَ مُوْتَهَا ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتَ

زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑤ وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ تَقُومَ

ایسی قوم کے لیے جو سوچتی ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اللہ

السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ يَأْمِرُكُمْ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۝

کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی پکار

مِنَ الْأَرْضِ ۝ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ⑥ وَلَهُمْ نِفَرٌ

زمین سے تو اسی وقت تم (زمین سے) نکل آؤ گے۔ اور اس کی ملک ہیں وہ تمام جو

السَّلْوَتُ وَالْأَرْضُ كُلُّهُ فِتْنَوْنَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ

آسانوں اور زمین میں ہیں۔ تمام اس کے تابع دار ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جو مخلوق

يَبْدِلُوا الْخَلْقَ شَمْ يُعْبِدُهُ ۝ وَهُوَ أَهَوْنُ عَلَيْهِ ۝ وَلَهُ

کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر آسان ہے۔ اور

الْمَشْئُ الْأَعْلَى فِي السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ

سب سے اوپری شان (وحدانیت) اسی کے لیے ہے آسانوں اور زمین میں۔ اور وہ زبردست ہے،

الْحَكِيمُ ۝ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا قَنْ أَنْفَسِكُمْ هَلْ لَكُمْ

حکمت والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے مثال بیان کی تمہاری جانوں سے۔ کیا تمہارے

مِنْ قَاتَلَكُمْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءِ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ

ملوک تمہارے شریک ہیں اس روزی میں جو ہم نے تمہیں دی

فَإِنَّمَا فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُوهُمْ كَجِيلَتِكُمْ أَنْفَسِكُمْ

کہ تم (اور وہ مملوک) اس میں برابر ہو جاؤ، کہ تم ان سے ڈرو تمہارے اپنے سے ڈرنے کی طرح؟

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ بَلْ اَتَيْعَ

اسی طرح ہم آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بلکہ یہ

الَّذِينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ يَعْيِزُ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي

ظالم اپنی خواہشات کے پیچے بغیر دلیل کے چل پڑے ہیں۔ پھر کون اس کو راستہ

مَنْ اَضَلَّ اللَّهَ ۝ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصْرَىْنَ ۝ فَاقْرَمْ

دھا سکتا ہے جسے اللہ گراہ کر دے؟ اور ان کے لیے کوئی مدد گار نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنا چہرہ ہر طرف سے

وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفُا ۝ فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

پھیر کر اسی دین کی طرف رکھئے، اللہ کی فطرت (دین) کی طرف جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا

عَلَيْهَا ۝ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۝ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقَيْمُ

کیا ہے۔ بدنہ نہیں ہے اللہ کے بنائے ہوئے کو۔ یہ سیدھا دین ہے۔

وَلِكُنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ مُنْيَيِّنَ إِلَيْهِ

لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اسی کی طرف رجوع کرنے والے بنو

وَاتَّقُوهُ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۝ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت بنو۔

مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَ كَانُوا شَيْعَاءٍ كُلُّ حِزْبٍ

اُن میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہ بن گئے۔ ہر فرقہ

بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّ دَعْوَا

اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور جب انسانوں کو ضرر پہنچتا ہے تو وہ اپنے رب کو

رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَا قَفْهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً

پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت پکھاتا ہے

إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ لَيَكُفُرُوا

تو فوراً اُن میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک تھہرا نے لگتی ہے۔ تاکہ وہ ناشکری کریں

بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَفَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ۝ أَمْ أَنْزَلْنَا

اُن چیزوں کی جوہم نے انہیں دیں۔ پھر تم مزے اڑالو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یا ہم نے اُن

عَيْنِهِمْ سُلْطَنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشَرِّكُونَ ۝

پر کوئی دلیل اتنا ری ہے، جو تائید کرتی ہو ان کے ارتکاب شرک کی؟

وَإِذَا آذَفْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ

اور جب ہم انسانوں کو رحمت پکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہونے لگتے ہیں۔ اور جب انہیں مصیبت

سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتَلُونَ ۝

پہنچتی ہے اُن اعمال کی وجہ سے جو ان کے باخوبیوں نے آگے بھیجے ہیں تو فوراً وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ روزی کشاوہ اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں؟

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ فَإِنْ

یقیناً اس میں نہیں ہیں الیٰ قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ تو تم

ذَا الْقُرْبَى حَقَّةٌ وَالْمُسْكِنُونَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۝ ذَلِكَ

رشته داروں کو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ یہ

خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلَئِكَ هُمْ

بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور یہی لوگ

الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَّا لَيْدُوْا فِي أَمْوَالٍ

فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مالوں

النَّاسُ قَلَّا يَرْبُوُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِّنْ شَرَكُوتٍ

میں، تو وہ اللہ کے نزدیک تو بڑھتا نہیں۔ اور جو زکوٰۃ دیتے ہو

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ ﴿۳۷﴾

اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے تو یہی لوگ دوگنا کرنے والے ہیں۔ اللہ

الَّذِي خَلَقْتُمْ ثُمَّ رَزَقْتُمْ ثُمَّ يُمْسِيْتُمْ ثُمَّ تُحْيِيْكُمْ

نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں روزی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔

هَلْ مِنْ شَرَكًا كُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ

کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر

مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٦﴾ ظہر الساد

سکتا ہے؟ اللہ پاک ہے اور برتر ہے اُن چیزوں سے جنہیں وہ شریک نہ ہراتے ہیں۔ فاصلہ پھیل گیا

فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِنَّمَا كَسَبَتُ أَيْدِيَ النَّاسِ لِيُذْيِقُهُمْ

خشکی اور تری میں اُن اعمال کی بدولت جو انسانی ہاتھوں نے کیے، تاکہ اللہ

بَعْضَ الَّذِي عَلِمُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧﴾ قُلْ سِيرُوا

اُن کے کچھ اعمال کی انہیں سزا چکھائے تاکہ وہ باز آجائیں۔ آپ فرمادیجیے کہ تم

فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

زمیں میں چلو، پھر دیکھو کہ اُن لوگوں کا انعام کیا ہوا جو اُن سے

مِنْ قَبْلٍ كَانَ أَنْتُرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٨﴾ فَاقْرَمْ وَجْهَكَ

پہلے تھے۔ اُن میں سے اکثر مشرک تھے۔ تو آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھتے

لِلَّذِينَ الْقَيِّمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ

اس سیدھے دین کی طرف اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس کے ملنے کا کوئی امکان نہیں

مِنَ اللَّهِ يَوْمٌ إِنَّ يَصَدِّعُونَ ﴿٩﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ

اللہ کی طرف سے، اس دن وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو کفر کرے گا تو اسی کے ذمہ

كُفْرًا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَغْسِلُهُمْ يَمْهَدُونَ ﴿١٠﴾

اس کے کفر کا وبال پڑے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا تو اپنی ہی ذات کے فائدہ کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں۔

لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَتِ مِنْ فَضْلِهِ

تاکہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو اللہ اپنے فضل سے بدله دے۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِينَ ۝ وَ مَنْ أَيْتَهُ أَنْ يُرْسِلَ
يقیناً اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں
الرِّبَاحَ مُبَشِّرٍ وَ لَيْذِيقُكُمْ قَمْ رَحْمَتِهِ وَ لَتَجْرِي
بھیجتا ہے بھارت دینے والی بنا کر اور تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ رحمت کا مزہ چکھائے اور تاکہ کشتی
الْفُلُكُ إِيَّامِرَةٍ وَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ
چلے اللہ کے حکم سے اور تاکہ تم اس کا فضل طلب کرو اور تاکہ تم
تَشْكُرُونَ ۝ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا
شکر کرو۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے
إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ
اُن کی قوم کی طرف، پھر وہ اُن کے پاس روش مجرمات لے کر آئے، پھر ہم نے جمموں سے
أَجْرَمُواهُ وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ اللہُ الَّذِي
انتقام لیا۔ اور ہم پر لازم ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ ہی ہے جو
يُرْسِلُ الرِّبَاحَ فَتَشْيِيرُ سَحَابًا فِي بَيْسْطَهِ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ
ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل کو اڑاتی ہیں، پھر اس کو آسمان میں پھیلاتا ہے جیسے
يَشَاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
چاہتا ہے، اور اس کو الگ الگ کٹلے بنا دیتا ہے، پھر تم یہ نہ کو دیکھو گے جو اس کے درمیان سے
مِنْ خَلْلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
نکتی ہے۔ پھر جب وہ اس کو پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے
إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ
تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً اس سے پہلے کہ
أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ قَمْ قَبْلِهِ لِمُبْلِسِينَ ۝ فَانْظُرْ
اُن کے اوپر یہ بارش برسائی جائے وہ بالکل نامید تھے۔ پھر آپ دیکھنے اللہ
إِلَى أَثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُنْجِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
کی رحمتوں کے نشانات کی طرف کر کیسے اللہ زمین کو اس کے خشک ہوجانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔
إِنَّ ذَلِكَ لَهُنْجِي الْمَوْتِ ۝ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَئِيْعَ قَدِيرٌ ۝
یقیناً وہ مُردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَطَلْوًا مِنْ بَعْدِهِ
اور اگر ہم طوفانی ہوا بھیجن، پھر وہ بھیتی کو زرد دیکھ لیں، تو ضرور اس کے بعد وہ ناشرکری
يَكْفُرُونَ ۚ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْوَقْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَمَ
کرنے لگیں۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہرے کو پکار نہیں
الدُّعَاء إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ۗ وَمَا أَنْتَ بِهِلْدِ الْعُنْتِ
سنا سکتے جب کہ وہ پشت پھیر کر بھاگے بھی۔ اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راستے
عَنْ ضَلَالِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاِيمَانِنَا
نہیں دکھا سکتے۔ آپ تو صرف اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں،
فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۗ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ
پھر وہ تابعداری کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے،
شَمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً شَمَ جَعَلَ
پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ
بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور وہ
الْعَلِيُّمُ الْقَدِيرُ ۚ وَيَوْمَ تَقْوُمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ
علم والا، قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ
الْبُجُرِمُونَ هُمْ مَا لَيْثُوا عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا
قتیمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھری سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح یہ حق سے
يُؤْفَكُونَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ
لوٹائے جاتے تھے۔ اور ان لوگوں نے کہا جن کو علم اور ایمان دیا گیا کہ
لَقَدْ لَيْسَتُمْ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِلَيْ يَوْمِ الْبَعْثَ فَهُدَا يَوْمٌ
یقیناً تم اللہ کی کتاب کے اعتبار سے ٹھہرے ہو قبروں سے اٹھائے جانے کے دن تک۔ تو قبروں سے
الْبَعْثِ وَلِكَنْكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ فِيَوْمٍ مِنْ
اٹھائے جانے کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ پھر اس دن
لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذَرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۚ
ان ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی اور نہ ان سے معافی طلب کی جائے گی۔

وَلَقَدْ حَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ^٦
اور یقیناً ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کی ہے۔

وَلَئِنْ چَنَّهُمْ بِأَيَّةٍ لَّيَقُولَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور اگر آپ ان کے پاس مجھے لے بھی آئیں تب بھی کافر لوگ کہیں گے

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ ۝ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ

بس! تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان

عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ

لوگوں کے دلوں پر جو سمجھتے نہیں۔ اس لیے آپ صبر کیجیے، یقیناً اللہ

اللَّهُ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْفِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ ۝

کا وعدہ سچا ہے اور آپ سے صبر کا دامن سچھزادیں (آپ سے باہر نہ کریں) وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔

الْيَتَّهَا ۲۳ (۲۱) سُبُّوْلُ الْفَعْلَمَنَ مَكْبِرَةٌ ۲۴

اوڑ رکوع ہیں

اس میں ۲۳ آیتیں ہیں

سورہ لقمان مکہ میں نازل ہوئی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو براہم بریان، نہایت رحم والا ہے۔

الْمَ ۝ تِلْكَ آيُّكُ الْكِتَبِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى

الْمَ ۝ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدایت

وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ

اور رحمت ہے اُن نیکی کرنے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں

وَ يُؤْتُونَ الرِّكْوَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ ۝

اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔

أُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ قِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ

یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ

الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُو

فلار پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی کہانیاں

الْحَدِيثُ لِيُضَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِغَيْرِ عَلِمٍ ۝

خریدتا ہے تاکہ وہ بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔

وَيَتَّخِذُهَا هُزُواً، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

اور وہ راہ خدا کو نماق بناتا ہے۔ یہی ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِلَّهِ مُسْتَكِبِرًا كَأَنْ

اور جب ہماری آئیتیں اس پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے گویا کہ

لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِيهِ وَقَرَاءَةَ فَبَشَّرْهُ بِعِدَادٍ

اس نے سنا ہی نہیں گویا اس کے کانوں میں ڈاٹ ہے۔ تو آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت

الْيَمِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَتِ لَهُمْ

سنا دیجیے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہیک عمل کرتے رہے ان کے لیے

جَنَّتُ التَّعْلِيمِ ۝ خَلِدِيْنَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۝

جنت نعیم ہیں۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے آسمان پیدا کیے بغیر ستون کے

تَرَوْنَهَا وَالْقُلُّ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِعَهُ بِكُمْ

جن کو تم دیکھ سکو اور اس نے زمین میں پھاڑ رکھ دیے کہ وہ تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ ۝ وَأَنْزَلَنَا مِنَ الشَّمَاءِ

اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی

فَأَءَ فَانْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَيْمِ ۝ هَذَا خَلْقُ

اتارا، پھر ہم نے اس میں تمام نباتات کے خوبصورت جوڑے اگائے۔ یہ اللہ کی مخلوق

اللَّهُ فَارُونَ فَمَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۝

ہے، تو مجھے دکھاو کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں ان لوگوں نے کیا پیدا کیا؟

بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَنَ

بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور یقیناً ہم نے ظلمان کو حکمت

الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ يَلِهُ ۝ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو شکر کرے گا تو صرف اپنے ذاتی فائدہ کے لیے

لِنَفْسِهِ ۝ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيْ حَمِيدٌ ۝ وَإِذْ

کرے گا۔ اور جو ناشکری کرے گا تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، قابلی تعریف ہے۔ اور جب

فَالْقَوْمُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعْظُلُهُ يُبَيِّنَ لَا تُشْرِكُ بِاللّٰہِ
لقمان (علیہ السلام) نے اپنے بیٹے سے کہا جب وہ اسے نصیحت کر رہے تھے اے میرے بیٹے! تو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرا۔

إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ وَ وَصَبَّيْنَا إِلَيْهِ النَّاسَ
یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق

بِوَالدَّيْنِ ۝ حَمَلْتُهُ أُمَّةٌ وَهُنَّا عَلٰی وَهُنِّ وَفَضْلُهُ
حکم دیا کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے کمزوری درکمزوری، اور اس کا دودھ چھڑانا

فِيْ عَامِيْنِ أَنَّ اشْكُرْ لِيْ وَلَوَالدَّيْنِ ۝ إِلَىَّ الْمَصِيرُ ۝
دو سال کے اندر ہوتا ہے، کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکرگزار رہ۔ میری ہی طرف لوٹنا ہے۔

وَإِنْ جَاهَدُكُمْ عَلٰی أَنْ تُشْرِكُنِيْ مَا لَنِيْسَ لَكُمْ يٰهُ
اور اگر والدین تھجے مجبور کریں اس پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کی تیرے پاس کوئی

عَلٰمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۝
دلیل نہیں، تو تو ان کا کہنا نہ مانتا، لیکن ان کے ساتھ رہنا دنیا میں عرف کے مطابق۔

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ
اور ان لوگوں کے راستے پر چلتا جو میری طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آتا ہے،

فَأُنْتَعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ يُبَيِّنَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ
پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو عمل تم کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے! یقیناً اگر رائی

مُشْقَالَ حَبَّةَ قَنْ خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي صَحْرَوَةِ
کے دانہ کے برابر بھی کوئی چیز ہو، پھر وہ کسی چنان میں ہو

أَوْ فِي السَّلَوَتِ أَوْ فِي الْأَمْرِضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ۝
یا آسمانوں یا زمین میں ہو، تب بھی اللہ اس کو لے آئے گا۔

إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَيِيرٌ ۝ يُبَيِّنَ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَمْرُ
یقیناً اللہ باریک بیٹ، باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے! تو نماز قائم کر اور نیکی کا

بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰی
حکم کر اور برائی سے روک اور صبر کر ان مصیبتوں پر

مَا أَصَابَكُمْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تُصْعِرْ
جو تھجے پہنچیں۔ یقیناً یہ ایسے امور میں سے ہے جن کا عزم کیا جاتا ہے۔ اور تو اپنا رخسار لوگوں

خَدَكَ لِلثَّالِسِ وَلَا تَتَشَّىشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَّاً
سے مت پھیر اور زمین میں اکٹھ کر مت چل۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٌ وَاقْصِدُ
یقیناً اللہ ہر تکبر کرنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور درمیانی

فِي مَشِيقٍ وَاعْضُضٍ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ آنْكَرَ
چال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ۔ یقیناً سب سے

الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرٌ أَلْمَ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ
بُری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے

سَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

تمہارے تابع کر دیں وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی وسعت فرمادی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجِدُ فِي اللَّهِ بُغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بھگڑتے ہیں علم اور ہدایت

وَلَا يَكُنُّ فَتَنِينِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا

اور روشن کتاب کے بغیر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس ہدایت کی

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّيَّعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

بیرونی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس کی بیرونی کریں گے جس پر ہم نے ہمارے

أَبَاءَنَا وَأَوْلُوْ كَانَ الشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ

باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ہو دوزخ کے عذاب کی

السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ

طرف؟ اور جو اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے گا اور وہ

مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

نیکوکار ہو، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔

وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَأَ يَحْزُنْكَ

اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا انجام ہے۔ اور جو کفر کرتا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین

لُكْفُرٌ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُذَّهُمْ بِمَا عَمِلُواٰ إِنَّ اللَّهَ نَذَرَ - ہماری ہی طرف اُن کو لوٹا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو عمل انہوں نے کیے تھے۔ یقیناً اللہ

عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۝ مُتَّبِعُهُمْ قَبِيلًا ثُمَّ تَضَطَّرُهُمْ دلوں کا حال خوب جانتے ہیں۔ ہم انہیں تھوڑا فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر زبردستی لے جائیں گے

إِلَى عَذَابٍ عَلِيِّظٍ ۝ وَلَيْسَ سَالَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ

سخت عذاب کی طرف۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۝ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

اور زمین پیدا کیے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرمادیجیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اللہ کی ملک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین

وَالْأَرْضُ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ وَلَوْ أَنَّ مَا

میں ہیں۔ یقیناً اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اور اگر وہ درخت جو

فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ۝ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُ مِنْ

زمین میں ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر اس کے لیے روشنائی بن جائے، اس کے بعد

بَعْدِكَ سَبْعَةُ أَخْيَرٍ مَا تَفَدَّتْ كَلِمَتُ اللَّهِ ۝ إِنَّ

سات سمندر اور بھی ہوں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یقیناً

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ مَا حَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ إِلَّا

اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تمہارا پیدا کیا جانا اور تمہارا قبروں سے اٹھنا نہیں ہے مگر

كَنَفِيسٌ وَاحِدَةٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ۝ اللَّهُ تَرَأَنَّ

ایک جان (پیدا کرنے) کے ماند۔ یقیناً اللہ سنتے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ

اللَّهُ يُولَجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَ

اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور

سَعَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَدْ كُلُّ يَعْجَرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى

اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔ سب کے سب چلتے رہیں گے ایک وقت مقررہ تک

وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ۝ ذِلْكَ بِإِنَّ اللَّهَ

اور یہ کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ

هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۝
ہی حق ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلْمَ تَرَ أَنَّ الْفُلَكَ
اور یہ کہ اللہ برتر ہے، بڑا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کشتی

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ قَنْ أَيْتَهُ ۝
چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمت سے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتٍ لِكُلِّ صَبَابِ شَكُورٍ ۝ وَإِذَا
یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب

غَشِيَّهُمْ مَوْجٌ كَالْظَّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
انہیں موج ڈھانپ لئتی ہے سایہ بولی کی طرح، تو وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خاص کرتے ہوئے۔

لَهُ الدِّيْنُنَّ فَلَمَّا نَجَّمُهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۝
پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔

وَمَا يَجْحَدُ بِاِلْيَتَنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝ يَا يَاهَا
اور ہماری آئیوں کا انکار نہیں کرتا مگر جو غدار، ناشکرا ہے۔ اے

النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشُوا يَوْمًا لَا يَجِزِي
انسانو! تم اپنے رب سے ڈرو اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی والد

وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ
اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور نہ اولاد اپنے والد کے کچھ بھی کام

وَالِدِهِ شَيْءًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا يَغْرِيَكُمْ
آ سکے گی۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر تمہیں دنیوی زندگی

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَقَدْ وَلَأَ يَغْرِيَكُمْ بِإِلَهِ الْغَرُورِ ۝
دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ رکھے دھوکے باز (شیطان)۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۝
یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اور وہی بارش کو انتارتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا
اور جانتا ہے اسے جو بچہ دنیوں میں ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ

تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ يَا تَّيَّبُ أَرْضٌ
کل کیا کرے گا؟ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں

تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حَيْرٌ

مرے گا؟ یقیناً اللہ علم والا، باخبر ہے۔

۳۰

(۲۲) سُورَةُ الْجِنَّةِ مِنْ كِتَابِهَا (۵)

رَوْعَانَهَا

اور ۳۰ بیتیں میں

سورۃ الحجۃ کسی میں نازل ہوئی

اس میں ۳۰ بیتیں میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت حرم والا ہے۔

الْمَّ تَزَيَّنُ الْكِتَبِ لَا رَبِّ فِيهِ مِنْ سَابِقٍ

الْمَ اس کتاب کا اتنا راجا جانا رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں

الْعَالَمِينَ ۝ امَّرْ يَقُولُونَ افْتَرَيْهُ ۝ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

کوئی شک نہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود اس کو گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے تیرے رب

رَبِّكَ لِتُنَبَّهَ قَوْمًا مَا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ

کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا

لَعَلَّهُمْ يَفْتَدُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

تاکہ وہ راہ پائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَيَّرَةِ أَيَّاهِ ثُمَّ اسْتَوَى

اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہیں چھ دن میں پیدا کیا ہے، پھر وہ

عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی

شَفِيعٌ ۝ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنْ

نہیں ہے۔ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے آسمان

السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فَيُؤْمِرُ

سے زمین تک، پھر وہ اس کی طرف چڑھتے ہیں ایسے دن میں

كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝ ذَلِكَ

جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے۔ وہ

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي

غائب اور حاضر کا جانے والا ہے، زبردست ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ

أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ

جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو بھی اس نے پیدا کیا، اور انسان کو پہلے مٹی سے

مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَةً مِنْ سُلْطَةٍ مِنْ مَاءٍ

پیدا کیا۔ پھر اس نے اس کی نسل کو ایک حیرت پانی کے غاصہ سے

مَهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْجَهٖ وَجَعَلَ

بنایا۔ پھر اس کو پورا پورا بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونک دی اور

كُلُّ السَّمْعٍ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝

اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔

وَقَالُوا إِذَا صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَيَنِي خَلِقٌ

اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیا تب ہم نئی پیدائش میں زندہ کر کے اٹھائے

جَحْدِيْدَةَ بَلْ هُمْ بِلِقَاءُ رَبِّهِمْ كُفُرُونَ ۝ قُلْ

جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ فرمادیجیے

يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ

کہ تمہیں وفات دے گا موت کا وہ فرشتہ جو تم پر معین ہے، پھر

إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝ وَلَوْ تَرَى إِذَا الْبَرْجُمُونَ

تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش کہ آپ دیکھتے جب یہ مجرم

نَاكْسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا

اپنے سراپے رب کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے۔ (وہ بھیں گے) اے ہمارے رب! ہم نے

وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُؤْقَنُونَ ۝

دیکھ لیا اور سن لیا، تو تو ہمیں (دنیا میں) واپس بیجھ دے کہ ہم یہ عمل کریں، ہمیں یقین آ گیا۔

وَلَوْ يَشْتَأْنَا لَأْتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدْمَهَا وَلَكِنْ حَقَّ

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری جانب سے قول صادق

الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْكَنَ جَهَلَمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالثَّاِسِ

صادر ہو چکا ہے کہ میں جنات اور انسانوں، دونوں سے جہنم کو ضرور

أَجْمَعِينَ ۝ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُرْ هَذَا
بھروں گا۔ تو تم عذاب پھروس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔

إِنَّا لَسَيْنَكُفُ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحُلْدَى بِمَا كُنْتُمْ
ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور اپنے کرتوت کے عوض ہمیشہ کا عذاب

تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّا يُؤْمِنُ بِإِيمَانِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا
چکھو۔ ہماری آئیوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں اُن آیات کے ذریعہ نصیحت

بِهَا حَرُّوا سُجَّدًا وَسَجَّوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا
کی جاتی ہے، تو سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ سچ کرتے ہیں اور وہ

يَسْتَكْبِرُونَ ۝ تَتَجَافُ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
بڑائی نہیں چاتے۔ اُن کے پیلو خواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں،

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَاعًا وَمَمَّا زَرَقْنُمْ يُفْقِدُونَ ۝
وہ اپنے رب کو خوف و امید سے پکارتے ہیں۔ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ
پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا ان کے لیے چھپایا گیا ہے،

جَزَاءً إِيمَانُكُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا
ان کے اعمال کے بدله میں۔ کیا پھر وہ شخص جو مومن ہو

كَمَنْ كَانَ فَإِسْقَادًا لَا يَسْتَوْنَ ۝ أَمَّا الَّذِينَ امْنَوْا
اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بدکار ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصِّلَاحِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَى زُرْلًا إِيمَانُكُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وُهُمُ النَّارُ
اور نیک عمل کرتے رہے، اُن کے لیے رہنے کی جنتیں ہیں۔ مہماں کے خاطر اُن اعمال کے

بَدْلَهُ مِنْ جُو وَهُ كَرْتَ تَهَـ اور البتہ جو بدکار ہیں تو اُن کا ٹھکانا دوزخ ہے۔

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعْيَدُوا فِيهَا
جب کبھی وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ التَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
اور اُن سے کہا جائے گا کہ اس آگ کے عذاب کو پھروس جس کو تم جھٹلایا

تُكَذِّبُونَ ۝ وَلَنْ يُقْتَلُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَنِ
کرتے تھے۔ اور ہم انہیں قریبی عذاب میں سے چکھائیں گے

دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَمَنْ
بڑے عذاب سے پہلے شاید وہ باز آ جائیں۔ اور اس سے

أَظْلَمُ مِنْ ذِكْرِ بِإِيمَانٍ رَّبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۝

زیادہ ظالم کون ہو گا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ صحیح کی جائے، پھر وہ اس سے اعراض کرے؟

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُسْتَقْمُونَ ۝ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى

یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو

الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مُرْيَاةٍ قَنْ لِقَاءِهِ وَجَعَلْنَاهُ

کتاب دی، تو آپ اُس کی ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہئے، اور ہم نے

هُدَىٰ لِبَيْتِ إِسْرَائِيلَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً ۝

اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اور ہم نے ان میں سے پیشوں بنائے

يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَهَا صَبَرْوَا شَ وَ كَانُوا بِإِيمَانِنَا

جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین

يُوقِنُونَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

رکھتے تھے۔ یقیناً تیرا رب اُن کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا

فِيهَا كَانُوا فِيهَا يَخْتَلِفُونَ ۝ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ

اُن باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت کا باعث نہیں ہوئی کہ

كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقَرُونِ يَمْشُونَ

ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو بلاک کیا جن کے مکانات میں

فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتٌ ۝ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۝

یہ چلتے ہیں؟ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں۔ کیا پھر وہ سنتے نہیں؟

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْنِيِّ

کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں بھر زمین کی طرف،

فَنُخْرُجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفَسُهُمْ ۝

پھر ہم اس کے ذریعہ کھتی نکلتے ہیں جس سے اُن کے چوپائے اور خود وہ بھی کھاتے ہیں۔

کیا پھر وہ دیکھتے نہیں؟ اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ قصہ کب ہے

انْ لَذُّتُمْ صَدِيقِينَ ﴿٦﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْقُضُ الَّذِينَ أَغْرَى تِمَ سچ ہو؟ آپ فرمادیکھی کہ قصہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا

كَفَرُوا إِيمَانَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٧﴾ فَاعْرِضْ نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس لیے ان سے آپ اعراض کیجیے

عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرْ إِيمَانَهُمْ مُمْتَظَرُونَ ﴿٨﴾ اور منتظر رہئے۔ یقیناً یہ بھی منتظر ہیں۔

﴿٩﴾ سُوْلَةُ الْجَرَاحَةِ كَذَبَنَاهَا

﴿١٠﴾ ایامِنا ۹۳

اس میں ۳۷ آیتیں ہیں اور رکوع ہوئی سورۃ الاجراہ بمدید میں نازل ہوئی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتْقِنِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفَّارِ وَالْمُنْقَبِتِينَ

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ! آپ اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانتے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا وَاتَّبَعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ

یقیناً اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور اس کی پیروری کیجیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی

مِنْ رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا

طرف سے وحی کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا وَمَا جَعَلَ

اور آپ اللہ پر توکل کیجیے۔ اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی

اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ

شخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے۔ اور تمہاری

أَزْوَاجَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُظِّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِتُكُمْ

بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذِلْكُمْ قَوْلُكُمْ

اور تمہارے منه بولے بیویوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ یہ تمہاری اپنے منه سے کہی ہوئی

بِأَفْوَاهُهُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ⑤
باتیں ہیں۔ اور اللہ حق کہتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔

أَدْعُوكُمْ لِأَبَاءِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ
تم ان کو ان کے باپ دادا کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی چیز ہے۔ پھر اگر

لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ ۝

تم ان کے باپ دادا کو نہیں جانتے، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے آزاد کردہ غلام ہیں۔

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاطُمْ يَهْ ۝
اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو تم غلطی کر بیٹھو،

وَلَكِنْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ۝

لیکن وہ جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ (یہ غلط ہے) اور اللہ بخششے والا،

رَحِيمًا ⑥ الَّتِيْ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۝

نہایت رحم والا ہے۔ یہ نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں،

وَأَزْوَاجُهُ أَهْمَهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ۝

اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور رشتہ دار ان میں سے ایک دوسرا کے زیادہ حق دار

بِعَضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ ۝

ہیں اللہ کی کتاب میں ایمان والوں سے اور مہاجرین سے،

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلَيِّكُمْ مَعْرُوفًا ۝ کَانَ ذَلِكَ

مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ عرف کے مطابق کوئی معاملہ کرو۔ یہ

فِي الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا ۝ وَإِذَا أَخْذَنَا مِنَ النِّيْنَ ۝

کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے انبیاء سے ان کا

مِيَثَاقُهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

عہد لیا اور آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمٍ وَأَخْذَنَا مِنْهُمْ مِيَثَاقًا عَلِيَّظًا ۝

اور عیسیٰ بن مریم (علیہم الصلوٰۃ والسلام) سے۔ اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔

لَيَسْعَلَ الصَّدِيقِيْنَ عَنْ صَدِيقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكُفَّارِيْنَ ۝

تاکہ اللہ پھلوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے۔ اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک

عَذَابًا أَلِيمًاٌ يَا يَهُودَ الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُو نِعْمَةَ اللَّهِ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو! تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو

عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٍ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا جو تم پر ہے جب تمہارے پاس لشکر آئے، پھر ہم نے ان پر طوفانی ہوا
وَقَجْنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًاً اور ایسے لشکر بھیج جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے تھے۔

إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جب وہ تمہارے پاس آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے

وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْعَنَاجِرَ وَتَظَرُّونَ اور جب کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ لگیں اور دل حلق تک پہنچ گئے اور تم نے اللہ کے

بِاللَّهِ الظَّفُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّذُوا ساتھ طرح طرح کے گمان کیے۔ اس وقت ایمان والے آزمائے گئے اور

زِلْزَالَ شَدِيدًا① وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ انہیں سخت ہلا دیا گیا۔ اور جب منافق مرد اور وہ جن کے دلوں میں

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مرض ہے، کہنے لگے ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا

إِلَّا غُرُورًا② وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ وہ دھوکا ہی تھا۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ اے بیڑ

يَثِرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَذِنُ فِرِيقٌ والو! تمہارے لیے ڈھرنے کی جگہ نہیں ہے، تو واپس لوٹ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک جماعت نبی اکرم

مِنْهُمُ النَّىٰ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اجازت طلب کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ یقیناً ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ

بِعُوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا③ وَلَوْ دُخَلَتْ خالی نہیں تھے۔ وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر (یہ لشکر)

عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُلِّلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتُوْهَا مدینہ کے اطراف سے ان پر داخل ہو کر ان سے کفر کا مطالبہ کریں تو وہ کفر کر لیں گے،

وَمَا تَكْتَبُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا

اور اس میں صرف تھوڑی ہی دیر کریں گے۔ اور یقیناً انہوں نے اللہ سے اس
اللَّهُ مِنْ قَبْلٍ لَا يُوَلُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ حَمْدُ اللَّهِ

سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ پیچھے پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ اور اللہ کے عہد کا
مَسْؤُلًا ۝ قُلْ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفَرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ

ضرور سوال کیا جائے گا۔ آپ فرمادیجیے کہ تمہیں بھاگنا ہرگز لفظ نہیں دے گا اگر تم بھاگو گے
قِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعِنُ إِلَّا قَلِيلًا ۝

موت سے یا قتل سے اور اس وقت تو فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر تھوڑا۔
قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعِصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ

آپ فرمادیجیے کہ کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ سے اگر اللہ تمہارے ساتھ رہائی کا
سُوءًا اُو أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ

ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کا ارادہ کرے؟ اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ
قِنْ دُونَ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۝ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِظَيْنَ

کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یقیناً اللہ نے معلوم کر لیا ہے تم میں سے روکنے
مِنْكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا ۝

والوں کو اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔
وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ أَشْجَعَةٌ عَلَيْكُمْ ۝

اور وہ خود رہائی میں نہیں آتے مگر تھوڑا۔ تم پر بخیل کرتے ہوئے۔
فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدْوُرُ

پھر جب خوف آتا ہے، تو آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ آپ کی طرف تک رہے ہیں، ان کی آنکھیں
أَعْيُّهُمْ كَالَّذِي يُعْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۝

گھوم رہی ہیں اس شخص کی طرح جس پر موت کی عشی طاری ہو۔
فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ جَدَادٍ أَشْحَةً ۝

پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو وہ آپ کو تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں مال پر
عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۝

لاچ کرتے ہوئے۔ یہ ایمان ہی نہیں لائے، پھر اللہ نے ان کے اعمال جط کر دیے۔

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ يَحْسَبُونَ الْأَعْرَابَ
اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لشکر ابھی

لَمْ يَدْهُبُواۚ وَإِنْ يَأْتِ الْأَعْرَابُ يَوْدُواۚ لَوْ أَنَّهُمْ
گئے نہیں۔ اور اگر لشکر آ جائیں تو وہ چاہیں گے کہ کاش کہ وہ

بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسَاوُونَ عَنْ أَنْبَآكُمْ
(باہر) دیہاتیوں میں رہتے، تمہاری خبروں کے متعلق پوچھتے رہتے۔

وَلَوْ كَانُواۚ فِيْكُمْ مَا قُتَلُواۚ إِلَّا قَلِيلًا۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
اور اگر وہ تم میں ہوتے بھی تو قابل نہ کرتے مگر تھوڑا۔ یقیناً اللہ کے

فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
رسول میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخری دن سے

وَالْيَوْمِ الْغَرْرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۝ وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ
امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اور جب ایمان والوں نے

الْأَعْرَابَ ۝ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
لشکر دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا

وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ۝ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا
اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا۔ اور اس چیز نے اُن کو ایمان اور تابعداری میں

وَسَلِيمًا۝ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
بڑھا دیا ہے۔ ایمان والوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے چج کر دکھایا

مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۝ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَةً وَمِنْهُمْ
وہ عہد جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا اور ان میں

مَنْ يَتَنَظَّرُ ۝ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا۝ لِيَجِزِي اللَّهُ
سے کچھ وہ ہیں جو منتظر ہیں۔ اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تاکہ اللہ پھول کو

الصَّدِيقَيْنَ بِصَدِيقِهِمْ وَيَعِذَّبَ الْمُنْفَقِيْنَ إِنْ شَاءَ
ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقین کو اگر وہ چاہے تو عذاب دے

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۝
یا ان کی توبہ قبول کرے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔

وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعِظِيمِهِمْ لَمْ يَأْتُوا بِخَيْرًا وَكَفَى
اور اللہ نے کافروں کو پھیر دیا اپنے غصہ میں بھرے ہوئے، وہ کوئی خیر نہ لے جاسکے۔ اور اللہ

اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْقَتَالُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٦﴾
ایمان والوں کی طرف سے قتال کے لیے کافی ہو گیا۔ اور اللہ وقت والا، زبردست ہے۔

وَ أَنْزَلَ اللَّذِينَ ظَاهِرُهُمْ قِنْ أَهْلَ الْكِتَابِ
اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے ان کو

مِنْ صَيَاصِيمُهُمْ وَقَدَّافَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فِرِيقًا تَقْتَلُونَ
نیچے اتارا اور ان کے قلوب میں رعب ڈال دیا، ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے

وَتَأْسِرُونَ فِرِيقًا ﴿٧﴾ وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ
اور ایک جماعت کو تم قیدی بنارہے تھے۔ اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا وارث بنایا اور ان کے گھروں اور ان

وَ أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْوُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
کے مالوں کا وارث بنایا، اور ایسی زمین کا تمہیں وارث بنایا جس کو تم نے ابھی رومنداہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر

شَيْءٌ قَدِيرًا ﴿٨﴾ يَأْتِيهَا الشَّيْءُ قُلْ لَا إِنْرَاجَكَ
قدرت والا ہے۔ اے نبی! آپ فرمادیجیے آپ کی بیویوں سے کہ اگر

إِنْ كُنْتَ تُرِدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَى
تم دنیوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو تم آؤ،

أَمْعَكُنْ وَ أُسْرِحُكُنْ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٩﴾ وَإِنْ كُنْتَ
میں تمہیں متاع دنیا دے دوں اور میں تمہیں اپھی طرح چھوڑ دوں۔ اور اگر تم

تُرِدُّنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْأُخْرَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ نَ
اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت چاہتی ہو تو یقیناً اللہ نے

أَعَدَ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُنَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ يُنِسَاءُ النَّبِيِّ
تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیوی!

مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَ بِغَاصِحَّةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهَا
تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کرے گی، تو اسے دوہرا

الْعَذَابُ ضَعْفَيْنِ ﴿١١﴾ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٢﴾
عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔